

PWCS سمر ریڈنگ لسٹ تیار کرنے کے لیے رہنما اصول

مقصد: طلباء کو معیاری ادب پڑھنے کی ترغیب دینا اور تنقیدی سوچ، تخلیقی سوچ، مواصلات، تعاون، اور شہریت کی حمایت کے لیے ان کی آزادانہ پڑھنے کی مہارتوں کو فروغ دینا۔

- I. سکول کا عملہ مضامین، صنف، مصنفین، یا عنوانات کی تجویز کردہ پڑھنے کی فہرست کو برقرار رکھے گا۔ تجویز کردہ کتابیں فہرست میں گریڈز نو تا 12 کے لیے ہر گریڈ لیول پر کم سے کم 10 عنوانات، مصنفین، اور/یا منظر نامے ہوں؛ گریڈز چھ تا آٹھ تک کے لیے 15 ہر گریڈ لیول کے لیے؛ گریڈز تین تا پانچ سال کے لیے ہر گریڈ لیول پر 20؛ اور گریڈز کنڈرگارٹن سے دو کے لیے ہر گریڈ لیول پر 25۔
- II. آزادانہ پڑھائی کے لیے مناسب عنوانات، مصنفین، صنف، اور مضامین کا خیال کریں۔ اس فہرست میں انگریزی زبان سیکھنے والے لیول ون، ٹو، اور تھری طلباء کو شامل کرنے کے لیے دلچسپی اور پڑھنے کی سطح کی صلاحیتوں کو راغب کرنے کے لیے کتابوں کی وسیع اقسام شامل ہوں گی۔ جن عنوانات، مصنفین، صنف، اور مضامین کے لیے اساتذہ کی ہدایت اور مواد کی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس فہرست میں شامل نہیں ہیں۔
- III. جو عنوانات، مصنفین اور مضامین گریڈز لیول کی فہرستوں میں شامل ہو رہے ہیں، ان پر کم سے کم دو اراکین عملہ کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اس بات کی یقین دہانی لیے تجویز کیے جانے والے عنوانات، مصنفین، اور مضامین طالبعلم کی عمر کے مطابق مناسب ہیں، مواد کی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے۔ لائبریرین آن لائن پرنس ولیم کاؤنٹی پبلک لائبریری کیٹلاگ سے رجوع کریں گے تاکہ کچھ خاص عنوانات کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔
- IV. تجویز کردہ عنوانات کی تشریحات طلباء اور والدین کو متن کے مواد کی تفصیل دینے کے لیے لکھی جائیں گی، بشمول زبان اور حساس مسائل، تاکہ پڑھنے کے لیے مواد کے انتخاب میں طلباء اور والدین کی مدد کی جا سکے۔
- V. طلباء کو زندگی بھر پڑھنے کی عادت پیدا کرنے کی ترغیب دیں۔

فہرست پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے رہنما اصول:

سکول لائبریرین اپنی تجویز کردہ پڑھنے کی فہرستیں 15 مئی تک PWCS ویب ماسٹر کو فراہم کریں گے۔ ہر سکول اپنی تجویز کردہ فہرست اپنے سکول کے ویب پیج پر پوسٹ کرے گا۔ رابطے کی اضافی شکلوں میں درج ذیل شامل ہو سکتی ہیں:

- I. طالبعلموں کو تجویزوں کے بارے میں بتانا اور تبادلہ خیال کرنا؛
- II. انگریزی نہ بولنے والے طلباء اور خصوصی تعلیم والے طلباء کی ضروریات پر بات کرنا؛
- III. سکول کے مرکزی دفتر اور کونسلنگ ڈیپارٹمنٹ کو پڑھنے کی مکمل فہرست کی تجاویز فراہم کریں جس میں رابطہ شخص کا نام اور فون نمبر شامل ہو؛
- IV. مقامی بک سٹورز اور پبلک لائبریریوں کو فہرست کی پوسٹنگ کے بارے میں مطلع کریں؛

- .V کنڈرگارٹن رجسٹریشن پیکٹ یا دیگر نئے طالب علم کے رجسٹریشن پیکٹ میں پڑھنے کی فہرستیں شامل کریں۔
- .VI طلباء کو دستیاب وسائل (یعنی پبلک لائبریری، ای بکس، بک سٹور، ہوم لائبریری، اور مفت ڈاؤن لوڈ والی ایپلیکیشنز) سے آگاہ کریں؛ اور
- .VII والدین کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ کتابوں کے انتخاب کا جائزہ لیں تاکہ وہ مناسب انتخاب کرنے میں ان کی مدد کریں۔ طلباء پڑھنے کی فہرست میں سے کتابیں منتخب کر سکتے ہیں، یا وہ اپنے والدین کی طرف سے منظور شدہ تقابلی کتاب پڑھ سکتے ہیں۔

پڑھی گئی کتابوں کو دستاویز کرنا

دستاویزات میں مصنف کا نام، کتاب کا عنوان، اور والد یا والدہ یا سرپرست کے دستخط شامل ہوں گے۔